



CORPORATE AFFAIRS GROUP

HO/CAG/SU/2020/120

April 29, 2020

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi.

Dear Sir,

Notices regarding Declaration of 1st Interim Cash Dividend (D-45) for the year ending December 31, 2020, Closure of Share Transfer Books and Placement of Quarterly Financial Statements of ABL on Bank's Website for the period ended March 31, 2020

Please find enclosed copies of Notices (both in English & Urdu language) regarding Declaration of 1st Interim Cash Dividend (D-45) for the year ending December 31, 2020, Closure of Share Transfer Books and placement of Financial Statements of Allied Bank Limited for the period ended March 31, 2020 on Bank's website.

We intend to publish these Notices in Daily Business Recorder and Daily Nawa-e-Waqat (combined edition; Karachi, Lahore and Islamabad) on Thursday, April 30, 2020.

Thanks & Regards,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Raffat', written over a blue diagonal line.

Muhammad Raffat
Company Secretary

Encl: As above


Allied Bank
www.abl.com

DECLARATION OF 1st INTERIM CASH DIVIDEND (D-45) FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2020, CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS AND PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS ON BANK'S WEBSITE

The shareholders are hereby notified that the Board of Directors of Allied Bank Limited in its meeting held on April 22, 2020 has declared 1st Interim Cash Dividend for the year ending December 31, 2020 @ 20% i.e. Rs. 2.00 per share. To determine the entitlement, Share Transfer Books would remain closed from May 07, 2020 to May 13, 2020 (both days inclusive). Shares Transfer requests received till close of business on May 06, 2020 will be treated in time for determining entitlement to the transferees. The shareholders are requested to notify changes in their registered addresses, if any, to the Bank's Share Registrar and Transfer Agent at the following address:

**CDC Share Registrar Services Limited, Head Office: CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S.,
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel #: 021-111 111 500**

Payment of Cash Dividend Electronically/Provision of IBAN and CNIC (Mandatory Requirement)

As per Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulation 2017, any dividend payable in cash by a listed company shall **ONLY** be paid through electronic mode directly into the bank account of the entitled shareholder(s) which must be in their own name. In this regard, Allied Bank Limited has already sent letters & Bank Mandate Forms to the shareholders and issued various notices through publication in newspapers requesting the shareholders to comply with the requirement of providing Bank Mandate urgently.

All the shareholders are once again requested to provide the Bank Mandate details including International Bank Account Number (IBAN) immediately along with a copy of valid CNIC, if not provided earlier. In case of non-provision of Bank Mandate and copy of valid CNIC, cash dividend(s) will be withheld according to SECP directives. For providing the Bank Mandate details to CDC/Share Registrar, the Form placed on Bank's website may be used, direct link for getting print of the said form is: www.abl.com/bankmandateform

For meeting above requirement, CDC shareholders may submit their Bank Mandate details to CDC Investor Account Services or their brokers where shares are placed electronically. In case of physical holding, the shareholders are requested to submit their Bank Mandate details to Allied Bank's Share Registrar at the address mentioned above.

Deduction of Withholding Tax:

Please note that withholding tax will be deducted on the basis of latest "Active Taxpayers List" (ATL) available at FBR website as per following rates:

- | | |
|---|-----|
| 1. Persons appearing in Active Taxpayers List (ATL) : | 15% |
| 2. Persons not appearing in Active Taxpayers List (ATL) : | 30% |

Further, in respect of joint shareholders, tax will be deducted as per their ratio/share (if any) intimated by the shareholder to the Bank's Share Registrar, otherwise their shareholding will be treated as equal.

Requirement of FBR's Approval or Valid Tax Exemption Certificate for Claim of Exemption U/S 150 of the Income Tax Ordinance, 2001:

If the entity is available with valid exemption certificate issued u/s159 of the Income Tax Ordinance, 2001 or has filed a petition against the FBR for acquiring exemption certificate, in any relevant court, a copy of valid exemption certificate or certified true copy of the Stay Order of Honorable Court along with latest court proceedings (if any) would be required latest by May 06, 2020 in lieu of valid exemption certificate for non-deduction of withholding tax. In case of non-availability of valid tax exemption certificate or relevant court order, tax under the relevant sections shall be deducted accordingly.

Placement of Quarterly Financials on Bank's Website

The financial statements of the Bank for the 1st quarter ended 31st March, 2020 have been placed on its website at the following link:

<https://www.abl.com/services/downloads/financial-reports/>

Shareholders are requested to visit the above-mentioned link for reviewing the financial statements. If any shareholder wishes to have a printed copy of the financial statements, he / she may send the request to "The Company Secretary, Allied Bank Limited, Head Office, 3-Tipu Block, New Garden Town, Lahore". A printed copy of the financial statements will be provided within 7- days of receipt of the request.

Dated: April 30, 2020



Muhammad Raffat
Company Secretary

اطلاع برائے پہلا عبوری نقد منافع منقسمہ (D-45) برائے سال ختمہ 2020، حصص منتقلی کتب کی بندش اور بینک کی ویب سائٹ پر سہ ماہی اکاؤنٹس کا اجراء

الائیڈ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 22 اپریل 2020 میں برائے سال 2020 جو کہ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہوگا، پہلا عبوری نقد منافع منقسمہ بشرح 2.00 روپے فی شیئر (یعنی 20 فیصد) کا اعلان کیا ہے۔

بینک کی حصص منتقلی کی کتب، اس استحقاق کے لیے 7 مئی 2020 تا 13 مئی 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص منتقلی کی جو درخواستیں شیئر رجسٹرار الائیڈ بینک لمیٹڈ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ہیڈ آفس، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو 6 مئی 2020 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہوں گی انہیں مذکورہ بالا نقد منافع منقسمہ کے استحقاق کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔ حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی (اگر کوئی ہو) کے بارے میں درج بالا پتہ پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک ادائیگی / انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور شناختی کارڈ (CNIC) کا مہیا کرنا (لازمی)

کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ ڈسٹری بیوشن) ریگولیشن 2017 کے تحت لمیٹڈ کمپنی کا کوئی بھی قابل ادا منافع منقسمہ صرف الیکٹرانکلی براہ راست حصص داران کے بینک اکاؤنٹ میں ادا ہو سکتا ہے۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ بینک مینڈیٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس بارے میں الائیڈ بینک لمیٹڈ پہلے ہی حصص داران کو بینک مینڈیٹ فارمز جاری کر چکا ہے اور متعدد ڈوئمنڈ اخبارات میں بھی شائع کروا چکا ہے۔ تمام حصص داران سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ بینک مینڈیٹ کی تفصیلات مع انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی ہو تو فوری مہیا کریں۔ بینک مینڈیٹ بمعہ (IBAN) مہیا نہ کرنے کی صورت میں SECP کی ہدایات کے مطابق منافع ہائے منقسمہ روک لیے جائیں گے۔ CDC شیئر رجسٹرار کو بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بینک کی ویب سائٹ پر موجود فارم استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فارم کا پرنٹ حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ لنک www.abl.com/bankmandateform ہے۔ اس سلسلے میں CDC حصص داران CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا پروکریز کو اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بمعہ (IBAN) مہیا کر سکتے ہیں۔ فزیکل ہولڈنگ کی صورت میں حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بمعہ (IBAN) اور شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی الائیڈ بینک کے شیئر رجسٹرار کو اود پر دیئے گئے پتے پر فراہم کریں۔

ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

براہ مہربانی نوٹ کر لیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس FBR کی ویب سائٹ پر موجود تازہ ترین "ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL)" کے مطابق منہا ہوگا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

1) افراد جن کے نام "ATL" میں شامل ہونگے: 15 فیصد (2) افراد جن کے نام "ATL" میں شامل نہیں ہونگے: 30 فیصد

مزید برآں جوائنٹ حصہ داران کی صورت میں ٹیکس کٹوتی حصہ داران کی علیحدہ علیحدہ فراہم کردہ شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ہوگی بصورت دیگر ان کے حصص پر کٹوتی برابری کی بنیاد پر ہوگی۔

FBR کی منظوری یا قابل تسلیم ٹیکس اسٹنٹ سرٹیفیکیٹ کی ضرورت برائے دعویٰ اسٹنٹ U/S 150 آئٹم ٹیکس آرڈیننس 2001

آئٹم ٹیکس آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت اگر کسی کے پاس اسٹنٹ سرٹیفیکیٹ ہے یا اس نے متعلقہ عدالت میں اسٹنٹ سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا ہے تو ایسی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کے لیے مستند اسٹنٹ سرٹیفیکیٹ یا معزز عدالت سے حاصل کیے گئے حکم امتناع کی مصدقہ کاپی 6 مئی 2020 تک مہیا کرنا ہوگی۔ مستند اسٹنٹ سرٹیفیکیٹ یا متعلقہ عدالتی حکم کی عدم دستیابی کی صورت میں ٹیکس کی کٹوتی متعلقہ سیکشر کے مطابق کی جائے گی۔

بینک کی ویب سائٹ پر سہ ماہی اکاؤنٹس کا اجراء

سال 2020 کی پہلی سہ ماہی ختمہ 31 مارچ 2020 کے لیے بینک کی فنانشل شیٹمنٹ ویب سائٹ پر دستیاب کردی گئی ہیں۔ جس کا لنک درج ذیل ہے:

<https://www.abl.com/services/downloads/financial-reports/>

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فنانشل اسٹیمنٹ کا جائزہ لینے کے لئے مذکورہ بالا لنک ملاحظہ کریں۔ اگر کوئی شیئر ہولڈر فنانشل اسٹیمنٹ کی پرنٹڈ کاپی حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہے تو وہ اپنی درخواست کمپنی سیکریٹری الائیڈ بینک لمیٹڈ، ہیڈ آفس، 3 ٹیپو بلاک، نیوگاؤن ٹاؤن لاہور، کو بھیج سکتا/سکتی ہے۔ فنانشل اسٹیمنٹ کی پرنٹڈ کاپی درخواست کی وصولی کے 7 دن کے اندر فراہم کردی جائے گی۔

محمد رفعت
کمپنی سیکریٹری



بتاریخ: 30 اپریل 2020